



4715CH18


گندے پانی کی کہانی (Waste-water Story)

18

میں پڑھا عورتوں اور لڑکیوں کو پانی لانے کے لیے کئی کئی کلو میٹر چنان پڑتا ہے۔ کیا یہ بات پوری انسانیت کے لیے باعثِ شرم نہیں ہے؟

ہم سبھی لوگ گھر میں پانی کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو گنداد کرتے رہتے ہیں۔

گندا، کیا آپ کو تجھ ہوا۔



شکل 18.1

آپ آبادی میں اضافے، آلوگی، صنعتی ترقی، بدانتظامی اور دوسرے عوامل کی وجہ سے صاف پانی کی بڑھتی ہوئی قلت کے بارے میں سولہویں باب میں پڑھ چکے ہیں۔

پانی کی اس غیر معمولی صورت حال کا احساس کرتے ہوئے، 22 مارچ 2005 کو منائے جانے والے عالمی یوم آب کے موقع پر، اقوام متحده کی جزوی اسمبلی نے 2005-2015 کی مدت کو ”پانی برائے زندگی“ پر عمل درآمد کے لیے ایک بین الاقوامی دہائی منانے کا اعلان کیا ہے اس

صابن کے جھاگ بھرا، تیل ملائمیلا پانی ہمارے سنک غسل خانوں، پاخانوں اور لانڈریوں سے نکلا پانی گنداد ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ استعمال شدہ پانی برباہی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسے پانی سے آلوگروں کو علیحدہ کر کے اسے صاف کر لینا چاہیے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ گنداد پانی جاتا کہاں ہے اور اس کا کیا ہوتا ہے؟

18.1 پانی-ہماری زندگی کی شہرگ

صاف پانی انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، آئیے ہم صاف پانی کے منفف استعمال پر غور کرتے ہیں۔

سمرگرمی 18.1

یہاں ہم نے صاف پانی کے استعمال کی ایک مثال دے دی ہے۔ اس میں آپ مزید اضافہ کر سکتے ہیں۔

قدیمتی یہ ہے کہ صاف اور قابل استعمال پانی جس کی سب کو ضرورت ہے وہ سب کو مہیا نہیں ہے۔ روپرٹس کے مطابق ایک ارب انسانی افراد کو محفوظ قابل استعمال پانی دستیاب نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں پانی سے ہونے والی بیماریاں پھیلتی ہیں اور ان بیماریوں کے نتیجے میں لوگ مرتے بھی ہیں جیسا کہ آپ نے سولہویں باب



18.1 کوپر کچھیے۔
ہم یہ جانتے ہیں کہ سیوٹج ایک کا پچیدہ آمیزہ ہے جس میں ٹھوس، نامیاتی اور غیر نامیاتی گندگیاں مغذيات (Nutrients)، گندخور (Saprotrophic) اور بیماری پیدا کرنے والے بیکڑ یا اور دوسرے خورد عضوی (مائکروب) معلق ہوتے ہیں۔
نامیاتی گندگیاں - انسانی فضلہ، حیوانی فضلہ
تیل، یوریا (پیشاب)
گھن ماردوایاں

نباتات کش (herbicides)
بچل اور سبزیوں کا کچھرا وغیرہ
غیر نامیاتی گندگیاں Inorganic impurities - نائیٹرٹیٹس، فاسفیٹ، دھاتیں
مغذي (Nutrients) - فاسفورس اور نائٹروجن
بیکٹیریا (Bacteria) - جیسے دیریوکولریس جن سے ہیضہ پھیلتا ہے اور سالمو نیلا پرانا بھی جس سے ٹائی فائلڈ ہوتا ہے دیگر خورد عضوی - جیسے پروٹوزوں جن سے پیش ہو جاتی ہے۔

18.3 پانی کی صفائی - واقعات سے بھرا سفر

گھر یا عوامی عمارتوں میں عام طور پر پائپوں کا ایک جال صاف پانی کو لاتا ہے اور دوسرے جال گندے پانی کو باہر لے جاتا ہے۔ اگر ہم زمین کے اندر دیکھ سکتے تو اندازہ ہوتا ہے میں چھوٹے بڑے پائپوں کا ایک جال نظر آتا جنہیں سیورس (Sewers) کہا جاتا ہے یہی پائپ سیورٹج کی تشکیل کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا ٹرانسپورٹ نظام ہے جو سیورٹج کو اس جگہ سے جہاں وہ پیدا ہو رہا ہے وہاں لے

دھائی میں جو کوششیں کی جائیں گی ان کا مقصد ایسے لوگوں کی تعداد کو 50 فیصد تک گھٹانا ہے جنہیں صاف اور محفوظ قابل استعمال پانی میسر نہیں ہے۔

پانی کی صفائی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے پانی کو کسی بھی آبی ذرائع میں جانے سے پہلے یا اس کو دوبارہ استعمال میں لائے جانے سے پہلے آلوگروں سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ گندے پانی کے اس طریقہ علاج کو عام طور پر سیوٹج ٹریٹ میٹ کہتے ہیں۔ یہ علاج کئی مرحلوں میں انجام پاتا ہے۔

18.2 سیوٹج کیا ہے؟

جو پانی، گھروں، دفتروں، صنعتوں، اسپتالوں اور دوسری جگہوں سے نکلتا ہے اسے سیوٹج (Sewage) کہا جاتا ہے۔ اس میں بارش کا وہ پانی بھی شامل ہے جو تیز بارش یا طوفان کے دوران سڑکوں پر بہتا ہے اور پھر نالیوں میں بھی بہتا ہے۔ سڑکوں اور چھوٹوں سے بہہ کر آنے والا پانی اپنے ساتھ نقصان دہ اور مضر اشیا کو لے آتا ہے۔ سیوٹج ایک ریقق فضلہ ہے۔ اس میں زیادہ تر پانی ہوتا ہے۔ جس میں گندگیاں (Impurities) گھلی ہوئی یا معلق حالت میں ہوتی ہیں۔ ان گندگیوں کو آبی آلوگر کہا جاتا ہے۔

18.2 سرگرمی:

اپنے گھر یا اسکول کے پاس یا سڑک کے کنارے کوئی کھلی نالی دیکھیے اور جو پانی وہاں بہہ رہا ہے اس کا بغور معائنہ کیجیے۔ اس کا رنگ، اس کی بو اور آپ کے پاس جو بھی مشاہدات ہوں ان کو لکھیے۔ ان پر اپنے ساتھیوں اور استاد سے گفتگو کر کے جدول

جدول 18.1

نمبر شمار	سیور تج کی قسم	کہاں سے نکلتا ہے	کون سی اشیا آلو دہ کرتی ہے	دیگر رائے
1	نالیوں کا پانی	باؤر پچی خانہ		
2	خراب پانی	غسل خانہ		
3	تجارتی گند اپانی	صنعتی اور کار و باری تنظیمیں		

اگر آپ کے علاقے میں سیور تج سسٹم نہیں ہے تو پتہ لگایئے کہ سیور تج کو کہاں ٹھکانے لگایا جاتا ہے۔

جاتا ہے جہاں اس کو ٹھکانے لگایا جاتا ہے یعنی اس پلانٹ تک جہاں کے اس کا اعلان ہوتا ہے۔

آلو دہ پانی کا اعلان

(Treatment of polluted water)

مندرجہ ذیل سرگرمی کو انجام دیجیے اس سے آپ کو ان اعمال کے سمجھنے میں مدد ملے گی جو گندے پانی کو صاف کرنے کے لیے پلانٹ میں انجام پذیر ہوتے ہیں۔

سیور تج میں، دو یادو سے زیادہ سیور کے جنکشن پر اور ان نکات پر جہاں سمت میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے ہر 50 سے 60 میٹر کی دوری پر مین ہول ہوتے ہیں۔

سرگرمی 18.3

اپنے گھر یا اسکول کی بلڈنگ کے سیور تج روٹ کا مطالعہ کچے اور درج ذیل امور کو انجام دیجیے۔

- اس سرگرمی کو انجام دینے کے لیے آپس میں گروپ بنالجیہے ہر مرحلے پر اپنے مشاہدات کو قلم بند کرتے رہیے۔
- کانچ کا ایک جارلے کراس کے $\frac{3}{4}$ حصہ کو پانی سے پھر دیجیے
- اس میں کچھ گندے نامیاتی مادے جیسے گھاس، سنترے کے

- سیور تج روٹ کا ایک خطی ڈائیگرام بنائیے
- پورے راستے پر چل کر دیکھیے یا پورے احاطے کا سروے کیجیے اور مین ہول کی تعداد معلوم کیجیے۔
- ایک کھلی ہوئی نالی کے ساتھ چل کر دیکھیے اور پتہ لگایئے کہ وہ نالی کہاں ختم ہوتی ہے اور اس نالی یا اس کے آس پاس کون سے جاندار عضو ہے ہیں۔

گندے پانی کی کہانی

میٹر گہریت کا فلٹر ہوتا ہے) باقی ہوا آمیز مائع کو فلٹر کے ذریعے بیکروں میں ڈالیے۔ مائع کو فلٹر سے باہر مت گرنے دیجیے۔ اگر فلٹر شدہ مائع صاف نہیں ہے تو اسے بار بار اس وقت تک فلٹر کبھی جب تک پانی صاف نہ ہو جائے۔

اس فلٹر شدہ پانی کا بھی ایک ٹیسٹ ٹیوب نمونہ لیجیے اور اس پر نمونہ 3 لکھ دیجیے۔

فلٹر شدہ پانی کا دوسرا نمونہ ایک چوتھی ٹیسٹ ٹیوب میں ڈالیے اس میں گلورین کی ایک گولی ڈالیے اور اس وقت تک اس کو ملاجئے جب تک پانی صاف نہ ہو جائے۔ اس ٹیسٹ ٹیوب پر گلورین آمیختہ نمونہ 4 لکھ دیجیے۔



شکل 18.2 فلٹریشن کا عمل

تمام ٹیسٹ ٹیوبوں کے نمونوں کا بغور مشاہدہ کبھی۔ البتہ ان کو کچھیے مت صرف سونگھ لیجیے۔ اب درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔

(a) ہوا کی آمیزش کے بعد مائع کی ظاہری شکل میں آپ نے کن تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا ہے؟

چھلکے، تھوڑی سی ڈیپر جنٹ کی مقدار یا کسی رنگ یا روشنائی کے چند قطرے اس میں ملا دیجیے۔

جار کا ڈھکن بند کر دیجیے، اس کو خوب ہلائیے اور اس آمیزے کو دھوپ میں دودن کے لیے رکھ دیجیے۔

دودن بعد، آس آمیزہ کو ہلائیے اور اس کا ایک تھوڑا سا سپل ایک ٹیسٹ ٹیوب میں ڈالیے۔ علاج (Treatment) سے پہلے اس ٹیسٹ ٹیوب پر نمونہ 1 لکھ دیجیے۔ اس میں سے کیسی بوآ رہی ہے۔ کانچ کے جار میں موجود نمونہ میں ہوا کے بلبلے اٹھانے کے لیے کسی مچھلی گھر سے ایک ایریٹر (Aerator) کے لیے چند گھنٹے اس کو چھوڑ دیجیے۔ ایریٹر کو رات بھر اس کے ساتھ لگا رہنے دیجیے۔ اگر ایریٹر مستیاب نہ ہو تو ایک میکانیکل اسٹرر (Mechanical stirrer) یا مکسر کا استعمال کیجیے۔ آپ کو یہ کئی بار چلانا ہے۔

اگلے دن جب ہوا کی آمیزش مکمل ہو جائے تو ایک دوسرا نمونہ ایک دوسری ٹیسٹ ٹیوب لیجیے اور ایریشن کے بعد اس پر نمونہ 2، لکھ دیجیے۔

ایک فلٹر پپر لے کر اس کو ایک مخروطی شکل میں موڑیے۔ پپر کو پانی سے ترکبھیے اور اس مخروط (Cone) کو ایک قیف میں ڈالیے اور جیسا آپ نے چھٹی کلاس میں پڑھا رہے، قیف کو کسی سہارے پر لگا دیجیے۔ قیف میں ریت، باریک بھری اور آخر میں درمیانی بھری کی تہیں لگا دیجیے۔ شکل (18.2) (اصلی فلٹریشن پلانٹ میں فلٹر کا غذا استعمال نہیں ہوتا بلکہ کئی

ڈالا جاتا ہے۔ گندے پانی کی آمد کی رفتار اتنی گھٹا دی جاتی ہے کہ ریت، ریزے اور نکریاں نیچے بیٹھ جاتی ہیں (شکل 18.4)۔ 3۔ اب پانی کو ایک بڑے مینک میں چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں وہ ٹھہر جاتا ہے۔ یہ مینک درمیان کی طرف ڈھاں دار ہوتا ہے۔ فضلے جیسی ٹھوس چیزیں تلی میں بیٹھ جاتی ہیں اور پھر وہاں سے ان کو آلات کے ذریعے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ کچھ (Sludge) ہوتی ہے۔ اب جو تیل اور گریس وغیرہ اوپر تیرنے والی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں ان کو بھی ایک اسکیمر (skimmer) کی مدد سے نکال دیا جاتا ہے۔ اس طرح صاف کیا گیا پانی تصفیہ شدہ (Clarified) پانی کہا جاتا ہے۔ (شکل 18.5)



شکل 18.4 ریت اور ریزوں کو دور کرنے والا مینک

اس آبی کچھ (Sludge) کو ایک الگ مینک میں ڈالا جاتا ہے جہاں غیر ہواباش بیکھر یا اس کی تخلیل کر دیتے ہیں۔ اس عمل میں جو بایو گیس بنتی ہے اس کا استعمال ایندھن کے طور پر یا بھل پیدا کرنے کے لیے بھی کیا جاسکتا ہے۔

4۔ تصفیہ شدہ پانی میں ہوا پپ کی جاتی ہے تاکہ ہواباش بیکھر یا اس میں نمو کر سکیں۔ بیکھر یا اس انسانی فضلے، غذائی فضلے، صابن اور دیگر غیر پسندیدہ مادے کو ہضم کر لیتے ہیں جو بھی بھی اس

- (b) کیا ہوا کی آمیزش سے بوہی بدلتی ہے؟
- (c) ریت کے فلٹر نے کیا چیز صاف کی؟
- (d) کیا گلورین نے رنگ کو بھی دور کر دیا ہے؟
- (e) کیا گلورین میں بوہوتی ہے؟ کیا اس کی بوگندے پانی سے بھی خراب ہوتی ہے؟

18.4 گندے پانی کو صاف کرنے کا پلانٹ (waste-water Treatment Plant)

گندے پانی کا علاج، طبیعی، کیمیائی اور حیاتیاتی اعمال پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ اعمال ان طبیعی، کیمیائی اور حیاتیاتی مادوں کو ہٹا دیتے ہیں جو پانی کو آلوہ کرتے ہیں۔

1۔ گندے پانی کو بار اسکرینس (Bar screens) سے گزارا جاتا ہے۔ اس عمل میں بڑی چیزیں جیسے کپڑوں، لکڑیوں، کین اور پلاسٹک کے ڈبوں کے ٹکڑے دور کر دیے جاتے ہیں (شکل 18.3)




شکل 18.3 بار اسکرین

2۔ اس کے بعد پانی کو ریت اور ریزے ہٹانے والے مینک میں

گندے پانی کی کہانی

اکثر ہمیں سخت بدبو کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کھلی نالیاں بھی بہت ناگوار گزرتی ہیں۔ اور جب برسات کے دنوں میں نالیاں لبالب بھر جاتی ہیں تو یہ صورتحال اور بدتر ہو جاتی ہے۔



میں موجود ہیں۔ (شکل 18.6)

کئی گھنٹوں کے بعد معلق خر عضوی یا ایکٹیو بلڈ کچر (Activated sludge) کے طور پر ڈینک کی تلی میں بیٹھ جاتے ہیں۔



شکل 18.6 ایریٹر

کیا آپ جانتے ہیں؟

یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ سیونچ کی حضور کے چاروں طرف یوکلپیس کے پیڑ لگائیں۔ یہ پیڑ عام طور پر اضافی گندے پانی کو تیزی سے چوں لیتا ہے اور فضائی صاف پانی کے انحرافات چھوڑتا ہے۔



ہمیں کچھ سے بھری سڑکوں پر اپنا راستہ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ صورتحال حفاظان صحت کے خلاف اور بہت ہی غیر تسلی بخش ہے۔ مکھیاں مچھر اور دوسرے حشرات ایسے گندے پانی میں خوب پنپتے ہیں۔ ایک بیدار شہری ہونے کے ناتے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ میوسپلی یا گرام پنچایت پر زور ڈالیے کہ کھلی نالیوں کو ڈھکا جائے۔ اگر کسی گھر کا سیونچ سارے پڑوں کو گندرا کر رہا ہے تو آپ ان سے درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ دوسروں کی صحت کے لیے صفائی سترہائی کا خیال رکھیں۔

ایکٹیو بلڈ کچر میں تقریباً 97% پانی ہوتا ہے۔ پانی کو ریت کی خشک کر دینے والی پرتوں یا مشنیوں کے ذریعے دور کر دیا جاتا ہے۔ خشک شدہ کچر کا استعمال کھاد طور پر کیا جاتا ہے۔ جس سے نامیاتی مادہ اور مخذلیات واپس مٹی میں چلے جاتے ہیں۔

■ علاج شدہ پانی میں نامیاتی مادہ اور معلق مادے کا بہت کم لیوں ہوتا ہے۔ اس کو سمندر میں دریا میں یا زمین میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ فطرت اس کو مزید صاف کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی پانی کو جراشیم سے پاک کرنے کے لیے، ہلکوں اور اوزوں جیسی کیمیائی اشیا کا استعمال کیا جاتا اور اس کو پانی کے کسی تقسیمی نظام میں چھوڑا جاتا ہے۔

ایک فعال اور بیدار شہری ہیں

فضلے اور کچھے کی پیدائش تو انسانی زندگی کا ایک فطری حصہ ہے لیکن ہم پیدا شدہ فضلے کی قسم اور فضلے کی مقدار کو محدود کر سکتے ہیں۔

18.6 خانہ داری کے بہتر طور طریقے

فضلے رکھرے اور آلو دگروں کو بالکل شروعات میں ہی ختم کرنے یا کم کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے کہ ہم یہ دھیان رکھیں کہ نالیوں میں کیا ڈال رہے ہیں۔

کھانا پکانے کا تیل اور چربیوں کو نالیوں میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ان سے پائپ سخت ہو جاتے ہیں اور یہ رکاوٹ بھی پیدا کرتے ہیں۔ کھلی نالی میں، چربیاں مٹی کے سامان کو بند کر دیتی ہیں جس سے مٹی کی پانی کو فiltr کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، تیل اور چربیوں کو کوڑے دان میں ڈالیے۔

پینٹ، محلل (Solvents) اور حشرات کش (insecticides) جیسے کیمکلس، موڑا میل، اورادویہ، ان خورد عضویوں کو مار ڈالتے ہیں جن سے پانی کے تصفیہ میں مدد ملتی ہے۔ اس لیے ان جیسی چیزوں کو نالی میں مت ڈالیے۔

استعمال شدہ چائے کی پتی، ٹھوس غذائی باقیات (food remains) کوڑے دان میں ہی ڈالنے چاہئیں۔ (شکل 18.7) اس قسم کا کچھ نالیوں کو بند کر دیتا ہے اور ان سے آسیجن کا بہاؤ رک جاتا ہے۔ اس سے تنزل پذیری (Degradation) کے عمل میں خلل پڑتا ہے۔



شکل 18.7 ہر قسم کے فضلے کو سنک میں مت ڈال دیجیے۔

18.7 صفائی اور بیماری

Sanitation and Disease

صفائی کی کمی اور پینے کا آلو دہ پانی بہت سی بیماریوں کا سبب ہے۔ آئیے اپنے ملک کی صورت حالت پر غور کریں۔ لوگوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کو سیورنج کی سہولت حاصل نہیں ہے۔ انہیں سکون کہاں مل سکتا ہے؟

ہمارے عوام کی ایک بڑی تعداد کھلے میں، دریاؤں کے سوکھے کناروں پر، ریلوے لائنوں پر، کھیتوں اور میدانوں میں اور کبھی کبھی تو براہ راست پانی میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوتے ہیں۔ غیر تصفیہ شدہ انسانی فضلہ صحبت کے خطرات پیدا کرتا ہے۔ اس سے پانی بھی آلو دہ ہوتا ہے اور مٹی بھی آلو دہ ہوتی ہے۔ زمین کی سطح کے اوپر کا پانی اور زمین کی سطح کے نیچے کا پانی (گراونڈ و اٹر) دونوں ہی آلو دہ ہوتے ہیں۔ زیر زمین پانی کنوؤں: ٹیوب ویل، چشموں اور بہت سے دریاؤں کے پانی کا سرچشمہ ہے (یہ بات آپ سو لھویں باب میں پہلے ہی پڑھ چکے ہیں)۔ اس طرح یہ فضلہ پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا سب سے عام سبب بن جاتا ہے۔

گندے پانی کی کہانی

2016 میں حکومت ہند کی جانب سے ایک مشن چلایا گیا جسے سوچھ بھارت کا نام دیا گیا جس کے تحت سیوونج کو صحیح طریقے سے ختم کرنے اور ہر کسی کو بیت الخلا کی سہولت فراہم کرنے کی مہم شروع کی گئی ہے۔

ورمی پروسینگ بیت الخلا (Vermi-processing toilet)


ہندوستان میں ایک ایسے بیت الخلا کا ڈیزائن ٹیسٹ کیا گیا ہے جس میں کپنخوے انسانی فضلے کا علاج کر دیتے ہیں۔ یہ ایک انوکھا، کم پانی کے استعمال والا بیت الخلا ہے جس سے انسانی فضلے کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگایا جاتا ہے۔ اس بیت الخلا کا استعمال بھی بہت سادہ اور حفاظان صحت کے اصول پر مبنی ہے۔ انسانی فضلے کا مکمل طور پر ورمی کیکس (Vermi cakes) میں تبدیل ہو جاتا ہے جو موٹی کے لیے ایک ضروری وسیلہ ہے۔

18.9 عوامی مقامات پر صفائی

ہمارے ملک میں وقتاً فوقتاً میلے ٹھیلے لگائے جاتے ہیں۔ لوگوں کی بڑی تعداد اس میں شریک ہوتی ہے۔ اسی طرح ریلوے اسٹیشن، بس ڈپو، ہوائی اڈہ اور اسپتال وغیرہ کافی بھیڑ والی جگہیں ہیں۔ ان جگہوں پر ہزاروں لوگ روزانہ آتے ہیں اور بڑی مقدار میں فضلے اکھٹا ہوتا ہے۔ اسے مناسب طور پر ٹھکانے لگانا ضروری ہے ورنہ وباً بیماریاں پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔

حکومت نے صفائی کے کچھ معیار متعین کر دیے ہیں لیکن بدستمی سے یختی کے ساتھ لا گوئیں ہوتے ہیں۔

بہر حال ہم سب عوامی مقامات پر صفائی کے رکھ رکھاؤ میں اپنا تعاون دے سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جگہ جگہ کوڑانہ پھیلیں۔ اگر کوئی کوڑے دان وہاں موجود بھی نہیں ہے تو ہم پھینکنے والی چیزیں اپنے گھر لے جائیں اور وہاں کوڑے دان میں ڈال دیں۔



ان بیماریوں میں ہیضہ، موتوی جھبرہ، پولیو، دماغی بخار (Meningitis) پری ٹائی اس (Hepatitis) اور پچپش شامل ہیں۔

18.8 سیوونج کو ٹھکانے لگانے کے لیے ایک تبادل انتظام

صفائی کو بہتر بنانے کے لیے کم قیمت والے سیوونج کو ٹھکانے لگانے والے بر موقع (onsite) نظاموں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ سپلکٹ مینک، کیمیائی بیت الخلا اور کھاد بنانے والے گڑھے (Composting Pits) اس طرح کے ہی نظام ہیں۔ ان جگہوں کے لیے جہاں سیوونج سسٹم نہیں ہے یا اسپتالوں کے لیے اکا دوار دراز عمارتوں کے لیے یا چارپائی گھروں مجموعے کے لیے سپلکٹ مینک بہت مناسب ہوتے ہیں۔

کچھ تنظیمیں انسانی فضلے کو بر موقع ٹھکانے لگانے کے لیے حفاظان صحت کے اصول پر مبنی ٹیکنالوژی مہیا کرتی ہیں۔ اس قسم کے بیت الخلا میں فضلے کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فضلہ بیت الخلا کی سیٹ سے ڈھکی ہوئی نالیوں کے ذریعے بائیوگیس کے پلانٹ میں چلاتا ہے۔ جو بائیوگیس بنتی ہے وہ تو انائی کے وسیلے کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔

ہو سکتی ہے۔ اپنی تو انائی خیالات اور جائیت پسندی سے دوسرے لوگوں کو متناہر کیجیے۔ اگر لوگ مل کر کام کریں گے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اجتماعی کاموں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔

مہاتما گاندھی نے کہا تھا:
انسانی ہمدردی کے کسی بھی جدت پسندانہ لائجِ عمل کو اختیار کرنے کے لیے کسی کا انتظار مت کیجیے۔

اپنے ماحول کو صاف سترہ اور صحت مند بنائے رکھنے کے لیے ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ پانی کے ذرائع کو صحت مند حالت میں رکھنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ صفائی کے بہتر طور طریقوں کو اپناہی ہمارا طرز زندگی ہونا چاہیے۔ آپ ایک فرد کی حیثیت سے بڑی تبدیلیاں لاسکتے ہیں اور آپ کے اختراع آمیز اقدامات سے ایک نئی صورت حال پیدا

کلیدی الفاظ

(Sewer) سیور	(Aerobic bacteria) ہواباش بیکٹریا	(Aeration) ایریشن
(Sanitation) صفائی	(Contaminants) آبی آلودگر	(Biogas) بائیو گیس
(Sewerage) سیور تھج	(Anaerobic bacteria) غیر ہواباش بیکٹریا	(Sewage) سیوچ
	(Waste water) گند اپانی	(Sludge) آبی کچڑا

آپ کیا جانتے ہیں؟

استعمال شدہ پانی گند اپانی ہوتا ہے۔ گندے پانی (Waste-water) کو دوبارہ استعمال

کیا جاسکتا ہے۔

گند اپانی گھروں، کارخانوں، کھیتوں اور دیگر انسانی سرگرمیوں کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ اس

کو سیوچ (Sewage) کہا جاتا ہے۔

سیوچ ایک ریقق فصلہ ہے جس سے پانی اور مٹی دونوں آلوہہ ہوتے ہیں۔

گندے پانی کا علاج سیوچ ٹریٹ میٹ پلانٹ میں کیا جاتا ہے۔

پانی صاف کرنے والے پلانٹ پانی کو آلوہہ کرنے والی چیزوں کو اس سطح تک کم کر دیتے ہیں کہ

فطرت پر خود اس پانی کی دلکھ بھال کر لیتی ہے۔


گندے پانی کی کہانی

- جہاں سیورٹیک کا زیرِ زمین نظام اور فنلے کو ٹھکانے لگانے کے نظام مہیا نہیں ہیں وہاں کم قیمت والے برموقع، صفائی نظام کو اختیار کیا جاسکتا ہے۔
- گندے پانی کو صاف کرنے کے نتیجے میں کچڑا اور بابیوگیس ضمنی ماحصلات کے طور پر حاصل ہوتی ہے۔
- کھلانالیوں کا نظام، مکھیوں، مچھروں اور ایسے عضویوں کے پنپنے کی جگہ ہے جو بیماریوں کے پیدا ہونے کا سبب ہیں۔
- ہمیں کھلے میں اپنی ضروریات سے فراغت نہیں حاصل کرنی چاہیے۔ کم قیمت والے طریقے اپنا کر فنلے کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانا ممکن ہے۔

مشقیں

- 1- خالی جگہوں کو پُر کیجیے۔
 - (i) پانی کی صفائی کو دور کرنے کا عمل ہے۔
 - (ii) جو گندے پانی گھروں سے نکلتا ہے اسے کہتے ہیں۔
 - (iii) کوکھاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
 - (iv) نالیاں اور سے بلاک ہو جاتی ہیں۔
- 2- سیوٹنگ کیا ہے؟ غیر علاج شدہ سیوٹنگ کو دریاؤں یا سمندروں میں چھوڑنا کیوں مضرت رساں ہے؟
- 3- تیل اور چربیوں کو نالیوں میں کیوں نہیں بہانا چاہیے؟ وضاحت کیجیے۔
- 4- گندے پانی سے تصفیہ شدہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جاتے ہیں؟
- 5- آبی کچڑ (Sludge) کیا ہے؟ وضاحت کیجیے کہ اس کا علاج کس طرح ہوتا ہے؟
- 6- غیر علاج شدہ انسانی فضلہ صحٹ کے لیے خطرہ ہے۔ وضاحت کیجیے۔
- 7- گندے پانی کے علاج میں بار اسکرینز (Bar Screens) کا کیا کردار ہے؟
- 8- دو ایسی کیمیائی اشیا کے نام بتائیے جو پانی کے تعدی کو ختم کرتے ہیں؟

- 9۔ صفائی اور بیماری کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ سمجھائیے۔
- 10۔ صفائی کے تعلق سے آپ کا بحثیت ایک شہری کیاروں ہے؟
- 11۔ ذیل میں ایک معتمد دیا گیا: گذل ک!



بائیں سے دائیں

3۔ فضلے کے ریقین خمنی ماحصلات

4۔ سیوونچ ٹریٹ مینٹ میں نکلا ہوا انھوں فضلہ

6۔ ایک لفظ جو حفاظان صحت سے متعلق ہے۔

8۔ انسانی جسم سے نکلا ہوا فضلاتی مادہ

اوپر سے نیچے

1۔ استعمال شدہ پانی

2۔ سیوونچ لے جانے والا ایک پانپ

5۔ وہ خور دینی عضو یہ جو ہیضہ کا سبب بنتے ہیں

7۔ پانی سے تقدیر کی ختم کرنے والی کیمیائی شے

گندے پانی کی کہانی

12۔ اوزون کے متعلق درج ذیل بیانات کا مطالعہ کیجیے۔

(a) یہ جاندار عضویوں کے سانس لینے کے لیے ضروری ہے

(b) یہ پانی سے تعدادی کو ختم کرنے والی ہے۔

(c) یہ الٹرا اینکیٹ شعاعوں کو جذب کرتی ہے۔

(d) ہوا میں اس کا تناسب لگ بھگ 3% ہے۔

بتائیے کہ اپر لکھے بیانات میں سے کون سے صحیح ہیں۔

(c) (b) (a) اور (i)

(c) (b) اور (ii)

(d) (a) اور (iii)

چاروں (iv)

تو سیعی آموزش—سرگرمیاں اور پروجیکٹ

1۔ کلیدی الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے آپ خود ایک کراس ورڈ بنائیے۔

2۔ تب اور اب: اپنے دادا دادی سے اور پڑوں کے بزرگوں سے بات کیجیے۔ ان لوگوں کے یہاں سیوونج کو ٹھکانے لگانے کے نظام کی تفصیل معلوم کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے آپ دور راز کے لوگوں کو بھی خط وغیرہ لکھ سکتے ہیں۔ ان سب لوگوں سے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کی بنیاد پر ایک روپرٹ تیار کیجیے۔

3۔ ایک سیوونج ٹریٹ مینٹ پلانٹ کا دورہ کیجیے۔

آپ کا یہ سفر انتہائی معلومات افزایا اور ترقی سے بھرا ہو گا جیسے کہ ایک چڑیا گھر یا میوزیم کا سفر۔

چند ہدایات ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ آپ ان باتوں کو نوٹ کیجیے

مقام...تاریخ...وقت...پلانٹ کے افسر کا نام...گائدز رٹیچر...

(a) سیوونج پلانٹ کا مکمل وقوع

(b) ٹریٹ مینٹ کی صلاحیت

- (c) ابتدائی عمل کی حیثیت سے اسکریننگ کا مقصد
- (d) ایریشن مینک کے ذریعے ہوا کے بلبلے کیسے پیدا کیے جاتے ہیں؟
- (e) ٹریٹ مینٹ کے ختم ہونے پر پانی کتنا محفوظ ہے؟ اس کی جانچ کس طرح ہوتی ہے؟
- (f) ٹریٹ مینٹ کے بعد پانی کہاں چھوڑا جاتا ہے؟
- (g) شدید بارشوں کے دوران پلانٹ کا کیا ہوتا ہے؟
- (h) کیا بایو گیس پلانٹ میں ہی خرچ ہو جاتی ہے یا دیگر صارفین کو فروخت کر دی جاتی ہے؟
- (i) علاج شدہ آبی کچپڑ کا کیا ہوتا ہے؟
- (j) پلانٹ سے قربی گھروں کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کیا خصوصی اقدامات کیے جاتے ہیں؟
- (k) دیگر مشاہدات

مزید معلومات کے لیے دیکھیے

Millennium Development Goals:

<http://www.un.org/millenniumgoals/>

“Water for Life” International Decade for Action:

<http://www.un.org/waterforlifedecade/>

World Water Day - Themes and Importance:

<http://www.worldwaterday.org/>

Through the ages Development of Sanitation:

<http://www.sewerhistory.org/>

<http://www.cep.unep.org/pubs/Techreports/tr43en/Household%20systems.htm>

غريب سے غريب آدمي کو صاف پاني اور صفائی کی سہولتیں مہیا کرا کے ہم غربی اور انسانی
دکھوں کو کم کر سکتے ہیں اور تمام بچوں کے لیے تعلیم کو یقینی بناسکتے ہیں۔

يونیسف UNICEF

گندے پانی کی کہانی

انجینئرنگ کا ابتدائی نمونہ سندھ گھٹائی کی تہذیب

ہڑپا اور موہن جو داڑو کی تہذیب قدیم تہذیبوں میں سے ایک تھی، شاید یہ شہری صفائی کا پہلا نظام تھا۔
شہر کے الگ الگ گھروں میں بھی اور گھروں کے گروپوں میں بھی پانی کنوں سے حاصل ہوتا تھا۔
نهانے کے لیے الگ کمرہ ہوتا تھا، گند اپانی بندنالیوں میں چھوڑا جاتا تھا جو اہم سڑکوں کے ساتھ ساتھ
ہوتی تھیں۔ اینٹوں کا بنا ہوا سب سے قدیم بیت الحلا تقریباً 4500 سال پرانا ہے۔